

# Lev

## Chapter 2

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

וְנִזְבַּח	כִּי	תִקְרִיב	קָרְבָן	מִנְחָה	לִיהִזָּה	סֶלֶת	יְהִיָּה	קָרְבָנוֹ	וַיִּצַק	עָלֶיהָ	1
اور-جان	جب	قریب-لائے	نذرانہ	نذر-غلہ	خداوند-کے-لیے	میدہ	ہو	اُس-کا-نذرانہ	اور-ذالے	اُس-پر	
<a href="#">H5315</a>		<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3332</a>		
תִּשְׂמֵן	וְנָתַן	עָלֶיהָ	לְבָנָהּ:								
تیل	اور-رکھے	اُس-پر	لوبان								
<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H3828</a>								

کر رکھ لُبان اور اُنڈیلے تیل کا زیتون وہ پر اُس کرے۔ استعمال میدہ بہترین لُے کے اِس وہ تو چاہے کرنا پیش نذر کی غلہ کو رب کوئی اگر

וְהִבִּיאָהּ	אֶל-	בְּנֵי	אֶהְרֹן	הַכֹּהֲנִים	וְקָמַץ	מִשֶּׁם	מִלֵּא	קָמְצוֹ	מִסֶּלֶתָהּ		2
اور-لائے	پاس	بنی	بارون	کابنوں	اور-مٹھی-بھر-لے	وہاں-سے	بھری	اپنی-مٹھی	اُس-کے-میدے-سے		
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H7061</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H4393</a>	<a href="#">H7062</a>	<a href="#">H5560</a>		
וּמִשְׂמֵנָהּ	עַל	כָּל-	לְבַנְתָּהּ	וְהִקְטִיר	הַכֹּהֵן	אֶת-	אֲזַכְּרָתָהּ	הַמִּזְבֵּחַ			
اور-اُس-کے-تیل-سے	پر	سارے	اُس-کے-لوبان	اور-جلائے	کابن	کو	اُس-کی-یادگاری	قربان-گاہ-پر			
<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H3828</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0234</a>	<a href="#">H4196</a>				
אֶשָׁה	רִיחַ	רִיחַ	נִיחֹחַ	לִיהִוָּה:							
اگ-سے	خوشبو	خوشبو	خوشگوار	خداوند-کے-لیے							
<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>								

ہے، حصہ کا یادگار یہ دے۔ جلا پر گاہ قربان کر لے لُبان تمام اور میدہ بھر مٹھی گیا ملایا سے تیل امام ہیں۔ امام جو آئے لے پاس کے بیٹوں کے بارون اُسے ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی اُس اور

וְהִנּוּחַתָּהּ	מִן-	הַמִּנְחָה	לְאֶהְרֹן	וּלְבָנָיו	קָדֵשׁ	קָדְשִׁים	מֵאֲשֵׁי				3
اور-باقی	سے	نذر-غلہ	بارون-کے-لیے	اور-اُس-کے-بیٹوں-کے-لیے	نہایت	مقدس	اگ-کی-قربانیوں-سے				
<a href="#">H3498</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H8081</a>					
יְהוָה:	ס										
خداوند	س										
<a href="#">H3068</a>											

ہے۔ حصہ مُقدّس نہایت ایک سے میں قربانیوں والی جلنے کی رب وہ ہے۔ حصہ کا بیٹوں کے اُس اور بارون تیل اور میدہ باقی

וְכִי	תִקְרַב	קָרְבָן	מִנְחָה	מֵאֲפָה	תְּנוּר	סֶלֶת	חֲלוֹת	מִצָּת	בְּלוּלָת	בְּשֵׁמֶן	4
اور-جب	قریب-لائے	نذرانہ	نذر-غلہ	بھٹی-کی-پکی-ہوئی	تندور	میدہ	روٹیاں	بے-خمیر	ملی-ہوئی	تیل-میں	
	<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3989</a>	<a href="#">H8574</a>	<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H2471</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H8081</a>		
וְדִקְקִי	מִצָּת	בְּשֵׁמֶן:	ס								
اور-پیڑیاں	بے-خمیر	لگی-ہوئی	س								
<a href="#">H7550</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H4886</a>	<a href="#">H8081</a>								

ہوں ہوئی بنی سے تیل اور میدہ بہترین جو روٹیاں ہیں، سکتی ہو قسمیں دو کی اِس ہو۔ نہ خمیر میں اُس تو ہو روٹی ہوئی پکائی میں تنور قربانی یہ اگر ہو-گیا لگایا تیل پر جن روٹیاں اور

וְאִם-	מִנְחָה	עַל-	הַמִּנְחָת	קָרְבָנוֹ	סֶלֶת	בְּלוּלָה	בְּשֵׁמֶן	מִצָּה	תְּהִיָּה:		5
اور-اگر	نذر-غلہ	پر	توے	تیرا-نذرانہ	میدہ	ملی-ہوئی	تیل-میں	بے-خمیر	ہو		
	<a href="#">H4503</a>		<a href="#">H4227</a>		<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H1961</a>			

ہو-نہ خمیر میں اُس ہو۔ کی تیل اور میدہ بہترین وہ تو ہو روٹی ہوئی پکائی پر توے قربانی یہ اگر



13 **וְכֹל-אֲרָבָה** **מִנְחָתוֹ** **בְּמִלְחָה** **תְּמִלְחָה** **וְלֹא** **תִשְׁבֹּחַת** **מִלְחָה** **בְּרִית** **אֱלֹהֶיךָ** **יִמְעַל**  
 اور-ہر نذرانہ تیرے-نذر-غلے-کا نمک-سے نمکین-کر اور-نہیں رُکے-دے نمک عہد تیرے-خدا سے-اوپر  
[H3605](#) [H4503](#) [H4417](#) [H3808](#) [H4417](#) [H1285](#) [H4417](#) [H0430](#)

**מִנְחָתוֹ** **עַל** **כָּל-** **קִרְבָּנְךָ** **תְּקָרִיב** **מִלְחָה:** **ס**  
 تیرے-نذر-غلے پر بر تیرے-نذرانے قریب-لا نمک س  
[H4503](#) [H3605](#) [H7126](#) [H4417](#)

بے ڈالنا نمک میں قربانی پر تجھے ہے۔ باندھا ساتھ تیرے نے خدا تیرے جو بے کرتا نمائندگی کی عہد اُس نمک کیونکہ ہو، نمک میں نذر پر کی غلہ

14 **וְאִם-** **תְּקָרִיב** **מִנְחָת** **בְּפוֹרִים** **לִיהוָה** **אֲבִיב** **קָלוּי** **בָּאֵשׁ** **נֶגֶשׁ** **בְּרִמְלָה** **תְּקָרִיב**  
 اور-اگر قریب-لائے نذر-غلہ پہلے-پہل خداوند-کے-لیے تازہ-سبز بھنی-بوئی آگ-میں دانے تازے قریب-لا  
[H7126](#) [H4503](#) [H1061](#) [H3068](#) [H0024](#) [H7033](#) [H0784](#) [H1643](#) [H3759](#) [H7126](#)

**אֵת** **מִנְחָת** **בְּפוֹרִיךָ:**  
 کو نذر-غلہ تیرے-پہلے-پہلوں  
[H0853](#) [H4503](#) [H1061](#)

کرنا پیش کر بھون بالیاں کچی ہوئی کچلی تو چاہے کرنا پیش پھل پہلے کے فصل لئے کے نذر کی غلہ تو اگر

15 **וְנִתְּ** **עֲלֶיהָ** **שֶׁמֶן** **וְשִׁמְתָּ** **עֲלֶיהָ** **לְבָנָה** **מִנְחָה** **הוּא:**  
 اور-ڈال اس-پر تیل اور-رکھ اس-پر لوہان نذر-غلہ یہ  
[H5414](#) [H8081](#) [H3828](#) [H4503](#) [H1931](#)

رکھنا۔ لُبَان اور اُنڈیلنا تیل پر اُس لئے اِس بے نذر کی غلہ وہ چونکہ

16 **וְהִקְשִׁיר** **הַכֹּהֵן** **אֶת-** **אֲזִכְרְתָהּ** **מִנְרֶשֶׁה** **וּמִנְשִׁמְנָהּ** **עַל** **כָּל-** **לְבַנְתָּהּ**  
 اور-جلائے کاہن کو اُس-کی-یادگاری اُس-کے-دانوں-سے اور-اُس-کے-تیل-سے پر سارے اُس-کے-لوہان  
[H3548](#) [H0853](#) [H0234](#) [H1643](#) [H8081](#) [H3605](#) [H3828](#)

**אֶשָׁה** **לִיהוָה:** **פ**  
 آگ-سے خداوند-کے-لیے پ  
[H0801](#) [H3068](#)

بے قربانی والی جلنے لئے کے رب نذر یہ دے۔ جلا ساتھ کے لُبَان تمام امام اُسے حصہ کا یادگار یعنی ہے کا رب حصہ جو کا تیل اور دانوں ہوئے کچلے